



# THE SENATE OF PAKISTAN DEBATES

## OFFICIAL REPORT

Thursday, July 25, 1974

CONTENTS	PAGES
Panel of Presiding Officers. ... ..	1
Starred Question and Answer ... ..	2
Statement laid on the Table of the House ... ..	3
Leave of Absence ... ..	3
Obituary References ... ..	4
Privilege Motion Re: Force used against Mr. J. A. Rahim— <i>Deferred</i> ... ..	9
Adjournment Motion Re: Obscene Dance Shown by Karachi PTV— <i>Deferred</i> ... ..	9
Adjournment Motion Re: Misdirection of Federal Grant for Development— <i>Deferred</i> ... ..	11
Adjournment Motion Re: Failure of Pakistan Railways to run goods trains to carry mineral wealth— <i>Ruled out</i> ...	12
Finance Division Notification— <i>Presented</i> ... ..	16
The Evacuee Trust Properties (Management and Disposal) Bill, 1974— <i>Introduced</i> ... ..	16
The Dangerous Cargoes (Amendment) Bill, 1974— <i>Referred to Standing Committee</i> ... ..	16
The Pakistan Maritime Shipping (Regulation and Control) (Amendment) Bill, 1974— <i>Referred to Standing Committee</i> ...	17

PRINTED BY THE MANAGER, SHAMIM PUBLICATIONS LIMITED, LAHORE.  
PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, KARACHI.

Price Ps. 50



SENATE DEBATES

SENATE OF PAKISTAN

Thursday, July 25, 1974

The Senate of Pakistan met in the Senate Chamber, (State Bank Building) Islamabad, at ten of the clock in the morning, Mr. Chairman (Mr. Habibullah Khan) in the Chair.

(Recitation from the Holy Quran)

PANEL OF PRESIDING OFFICERS

**Mr. Chairman :** I am going to announce the names of the Panel of Presiding Officers for the Summer, 1974 Session of the Senate.

In pursuance of sub-rule (1) of rule 14 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1973, I nominate the following members in order of precedence to form a Panel of Presiding Officers for the Summer, 1974 Session of the Senate of Pakistan :

1. Mr. Qamaruz Zaman Shah,

2. Mr. Ihsanul Haq,

3. Mr. Shahzad Gul.

Now, we will take up questions. Question No. 1.

خواجہ محمد صفدر : جناب میں نے ایک نکتہ استحقاق آج کے اجلاس کے لئے آپ کے دفتر میں پیش کیا تھا۔ غالباً آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا اور اس کے متعلق اگر آپ اجازت دیں تو پہلے وہ پیش کر دوں۔

(مداخلت)

**Mr. Chairman :** Even before the questions ?

**Khawaja Mohammad Safdar :** Yes, Sir. Rule 61 lays down :

“A question of privilege shall have precedence over adjournment motions.”

**Mr. Chairman :** I have not yet taken up adjournment motions.

**Khawaja Mohammad Safdar :** All right, Sir.

**Mr. Chairman :** Am I right or wrong ?

**Khawaja Mohammad Safdar :** This is the correct interpretation.

**Mr. Chairman :** Of course, I will give it precedence over adjournment motions. Now, we will take up Question No. 1.

#### STARRED QUESTION AND ANSWER

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** (Minister without Portifilo). This question may please be deferred. I have got only the interim reply and I can read it out.

**Khawaja Mohammad Safdar :** I would like to have full and complete reply from the Minister concerned.

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** At present, under the rules, any Minister is entitled to give an interim reply and promise to supply full reply later on. Just now, we have got an interim reply laid on the table of the House and that will dispose of the business.

**Khawaja Mohammad Safdar :** It will not dispose it of fully.

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** I mean, for today only.

**Mr. Chairman :** And will the question remain pending ?

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** Yes, Sir. The required information is being collected and as soon as it is available, it will be laid on the table of the House.

خواجہ محمد صفدر : حضور والا ! میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک یہ required informations مل جائیں گی اور انہیں ایوان کی میز پر رکھ دیا جائے گا اندازاً ؟

جناب چیئرمین : آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یا منسٹر صاحب سے ؟

خواجہ محمد صفدر : میں آپ کی معرفت منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں ۔

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** I will inquire from the Interior Division and let the honourable Member know.

#### STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

[Assurance given by the Minister for Communication in reply to supplementary to the starred question No. 5 asked by Khawaja Mohammad Safdar, on 4th December, 1973, regarding installation of direct Telephone Exchange in Sialkot.]

The expansion of the automatic Telephone Exchange of Sialkot of 2,400 lines has since been completed on 20th April, 1974.

#### LEAVE OF ABSENCE

**Mr. Chairman :** I am going to take up that privilege motion after the leave applications, although it is not on my Order of the Day. Probably, it was received very late. It has been shown to me, but it is not entered here.

This is an application from Mr. Mahmood Aziz Kurd.

“I have the honour to state that on account of my confinement in the Central Jail, Mach (Baluchistan), I was unable to attend the sessions of the Senate during the months of September and December, 1973. I may be granted leave of absence from the said sessions of the Senate.”

Is the House prepared to grant him leave?

*(The leave was granted)*

**Mr. Chairman :** Leave is granted. This is an application from Mr. Kamran Khan.

“On account of my visit abroad, I will not be able to attend the ensuing session of the Senate.

I should be grateful if leave of absence is kindly granted for the entire July-August session.”

Has the Senator leave of the House?

*(The leave was granted)*

**Mr. Chairman :** Leave is granted. Now here is an application from Mr. J. A. Rahim.

“I request leave of absence from the House until the middle of October, 1974, as I have to go abroad for a couple of months.”

Is the leave granted?

*(The leave was granted)*

**Mr. Chairman :** So, leave is granted. There is another leave application from Mr. Mahmood Aziz Kurd.

“The undersigned submits as under :—

1. That the undersigned is a Member of the Senate of Pakistan and has been detained by the local authorities since August, 1973, and is now in District Jail, Quetta, Baluchistan.

2. That on account of this legal disability, the undersigned is not in a position to attend sessions of the Senate scheduled to commence from 25-7-1974.

Therefore, it is prayed that the undersigned may be granted leave of absence as provided in the rules.”  
No objection?

(The leave was granted)

Mr. Chairman : So, he is also granted leave ?

#### OBITUARY REFERENCES

Mr. Chairman : Sorry Khawaja Sahib, I must own my mistake. Do you have any objection regarding the obituary statements ?

Khawaja Mohammad Safdar : No, Sir.

Mr. Chairman : Any gentleman from the Treasury Benches to make the obituary statement with regard to late Mian Manzoor-i-Hassan, MNA ?

خواجہ محمد صفدر : میں کچھ عرض کر دوں؟ جناب والا! میاں منظور حسن صاحب ایم۔ این۔ اے۔ کم و بیش دو ڈھائی ماہ ہوئے انتقال فرما گئے۔ میں انہیں ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور ایک فعال کارکن کی حیثیت سے حصہ لیا اور اس کے بعد بھی وہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیشہ سرگرم کار رہے۔ پہلی بار ۱۹۵۱ء میں وہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بحیثیت رکن اسمبلی وہ ایک نہایت ہی محنتی رکن تھے وہ بڑی محنت کرتے تھے اور خصوصیت سے Legislative business میں انہیں ید طولی حاصل تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اور وہ اکٹھے حزب اختلاف کی بنچوں پر تھے تو موجودہ Rent Restriction Ordinance کو ایک قانون کی شکل دینا تھی، ایک ایکٹ کی شکل دینا تھی، تو ہم دونوں نے اس وقت گورنمنٹ کو تین یوم تک ایک چھوٹا سا بل پاس نہیں کرنے دیا۔ اگرچہ اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ کو اس ملک میں بہت بڑی اکثریت حاصل تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا اس دنیا سے اٹھ جانا قوم و ملت کے لئے ایک بہت بڑا عظیم نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے فاتحہ پڑھی جائے۔

Rao Abdus Sattar : Mr. Chairman, I associate with the feelings of Khawaja Mohammad Safdar. Mr. Manzoor-i-Hassan was a good Parliamentarian. He contested the election from Gujranwala on PPP Ticket. He was very progressive man. He was very hard working. He was very honest and his death is a great loss to the nation and to the ruling party as well. I pray that his soul may rest in peace and I would request you, Sir, that our feelings may be conveyed to the bereaved family.

جناب خورشید حسن میر\* : جناب والا! میاں منظور حسن قومی اسمبلی کے رکن تھے اور جیسے کہ خواجہ محمد صفدر صاحب نے فرمایا انہوں نے تحریک پاکستان

میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ گوجرانوالہ کی ایک معزز شخصیت تھی اور مشہور دیانت دار اور مخلص سیاسی کارکن تھے۔ جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تو وہ دور جدوجہد کا دور تھا۔ وہ برسراقتدار آنے کی توقع سے شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب انتخابات کے بعد وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو اس کے بعد یحییٰ خان کے فوجی ٹولے نے یہ کوشش کی کہ اس ملک میں جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا جائے اور انتخابات کے نتائج کو منفی اور غیر مؤثر کر دیا جائے تو وہ بڑا مشکل وقت تھا اور اس وقت اس آزمائش میں جن لوگوں نے مثالی کردار ادا کیا ان میں میاں منظور حسن کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے خلاف مارشل لاء کے تحت مقدمات بنائے گئے۔ ان کو جیل کی سزائیں دی گئیں لیکن ان کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہمیں نہیں بھلانا چاہئے، جنہیں ریکارڈ کرنا چاہئے اور جنہیں ایسے لوگوں کی خدمات کی حیثیت سے یاد رکھنا چاہئے کیوں کہ اس طرح ہم اپنے ملک کے جمہوری اداروں کی حفاظت کر سکیں گے اور جو جمہوریت ہم نے حاصل کی ہے اسے قائم رکھ سکیں گے۔

جناب والا! جب ہمارے ملک میں آئینی حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد سے میاں منظور حسن کا کردار بطور رکن قومی اسمبلی بہت مثالی تھا۔ انہوں نے کبھی ذاتی فائدے کے لئے کوشش نہیں کی۔ وہ باقاعدگی سے قومی اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لیتے تھے اور اپنی رائے کا اظہار بلاخوف تردید کرتے تھے خلوص نیت سے کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ دلائل کی بنا پر اپنی رائے کو تبدیل کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جناب والا! ان کی وفات سے قومی اسمبلی کو، پاکستان کی پارلیان کو، ہمارے جمہوری اداروں کو اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کو ایک گونا گونا نقصان ہوا ہے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کی بھی باری اس دنیا سے رخصت ہونے کی آئے، کیوں کہ جلد یا بدیر ہر ایک کی باری آئے گی، تو ہمیں بھی ہماری قوم اور ہمارے ساتھی انہی الفاظ سے یاد کریں جن الفاظ سے ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ شکریہ۔

**Mr. Chairman:** Thank you. I also join you in expressing my deep grief and sorrow on the death of late Mian Manzoor-i-Hassan. As it has been observed by various Members of this House this morning, he was a dedicated son of the country and a Parliamentarian. He had made many sacrifices for this country. He had undergone many hardships and difficulties. I would say in short or in a few words that he was a freedom fighter and a dedicated son of the nation. It will be unnecessary for me to repeat what has already been said. I would only content myself at the end to remark that may God bless

him, his soul may rest in eternal peace and give fortitude to the bereaved family. His death is a great loss to the National Assembly or the Parliament and to the whole nation. I would assure you that the feelings of this House would be conveyed to the bereaved family, but before that I would like Nomani Sahib to offer Fateha for the departed soul. Thank you.

(مفتی ظفر علی نعمانی نے فاتحہ پڑھی)

**Mr. Chairman :** There is also a reference with regard to the sad death of Mufti Ameen-ul-Hussani. Yes ?

خواجہ محمد صفدر : جناب والا ! پاکستان بھر میں محترم مفتی الحاج امین الحسینی کی وفات کی خبر کو گہرے رنج و الم کے ساتھ سنا گیا۔ اگرچہ مفتی صاحب مرحوم کا تعلق فلسطین سے تھا لیکن وہ ہر لحاظ سے دنیائے اسلام کے ایک نامور فرزند تھے اور دنیائے اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑی، ان پر کوئی مشکلات نازل ہوئیں تو مفتی صاحب مرحوم کا دل ان مسلمانوں کی ہمدردی میں ضرور تڑپا۔ پاکستان کی تحریک آزادی سے لے کر پاکستان میں بعد میں رونما ہونے والے واقعات تک، خواہ وہ کوئی بڑا سیلاب ہو، خواہ وہ بھارت سے ہماری جنگ ہو، جب کبھی پاکستان کسی مشکل سے دوچار ہوا تو مرحوم نے ہمیشہ ہمارے لئے کلمہ خیر کہا، ہماری امداد کی، جہاں تک بن پڑا کوشش کی۔

جناب والا ! دنیائے اسلام پر مرحوم کے عظیم احسانات ہیں۔ وہ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ دنیائے اسلام کی خدمت میں مصروف رہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی قوتیں کبھی انہیں اپنے اس راستے سے، اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت کے راستے سے نہ ہٹا سکیں۔ بڑی بڑی باجبروت حکومتوں سے انہوں نے ٹکر لی، کئی بار جیلوں میں رہے، ملک بدر ہوئے لیکن آرائے کلمہ الحق، اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیشہ سرگرداں اور کوشاں رہے۔ وہ نہایت ہی نیک بزرگ تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں نہایت ارفع مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اور فلسطین کے نمائندوں اور عرب ممالک کے اس رنج و الم میں اپنی شرکت کا اظہار کریں جو کہ مفتی صاحب مرحوم کی وفات سے ان لوگوں کو پہنچا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں یہ درخواست کروں گا کہ Senate کے ان جذبات سے تمام متعلقہ حکومتوں کو آگاہ کیا جائے اور فاتحہ پڑھی جائے۔

مفتی ظفر علی نعمانی\* : جناب والا ! میں چند چیزیں قبلہ مرحوم مفتی الحاج

\*Speech not corrected by the honourable Senator.

امین الحسینی کے بارے میں عرض کروں گا۔ پاکستان بننے کے بعد سے اکثر ان کے دورے پاکستان میں ہوتے رہے اور متعدد بار ان کی تقریروں کا اردو میں ترجمہ کرنے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا اور ان کی دعوت پر میں بیروت بھی حاضر ہوا اور خاص طریقے سے ان سے ملاقات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی الحاج امین الحسینی ہی وہ واحد ہستی تھے جن کی نظر میں ملکی تقسیم کوئی چیز نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان خواہ عرب ممالک کے باشندے ہوں یا کسی اور ملک کے، بحیثیت مسلمان سب ایک ہیں اور وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے کوشش کرتے رہے اور وہ مسلمانوں کے ہمیشہ ہی خواہ رہے۔ وہ ایک بہت بڑے جید عالم تھے اور یہی نہیں بلکہ وہ صوفی منش بزرگ بھی تھے۔ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے۔ نمازوں کی پابندی کے علاوہ تہجد انہوں نے کبھی بھی قضا نہیں کی۔ وہ بہت مخلص اور مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ان کا جتنا لگاؤ تھا اور جتنا تعلق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ملکوں کے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی ہو۔ ہم لوگوں کو ان کے لئے بہت خلوص کے ساتھ دعا کرنی چاہیئے۔ دعا کے لئے یہ ضروری نہیں ہے انسان گنہگار ہو یا بزرگ ولی کامل ہو۔ ہر شخص کے لئے دعا ہی کی جاتی ہے اور اس سے ان کو جو فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ خود ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔

جناب خورشید حسن میر\* : جناب والا! فلسطین کی تاریخ سے مرحوم مفتی الحاج امین الحسینی اور ان کے بڑے بھائی مفتی جمیل الحسینی کے نام الگ نہیں کئے جا سکتے۔ جب بھی فلسطین کی تاریخ لکھی جائے گی اور فلسطین کے المیے کا تذکرہ ہوگا کہ کیسے پہلے حکومت برطانیہ نے، جس کی تحویل میں فلسطین کا علاقہ تھا اور اس کے بعد وہاں کی سامراجی طاقتوں کی امداد اور ان کے ہل بوتے پر قائم ہونے والی غاصب اسرائیلی حکومت نے وہاں کی عرب آبادی کو ان کے ملک سے بے دخل کیا، ان پر مظالم کئے، ان کے گھر جلائے، ان کی زمینیں چھینی گئیں اور وہ اپنے ملک سے نکل کر آس پاس کے ہمسایہ عرب ممالک میں اب اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب دنیا کا ضمیر اس حد تک جاگے اور بین الاقوامی ادارے اتنے طاقت ور ہوں یا اتنی جرأت و حوصلہ اور ایمان حاصل کر سکیں کہ وہ انہیں ان کا وطن واپس دلائیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کب وہ خود بزور جہاد اپنے غصب شدہ حقوق واپس حاصل کر سکیں۔ ان میں اب بعض گوریلا تنظیمیں بن گئی ہیں اور بہت سے جنگجو قائد آگے ابھر آئے ہیں، لیکن ان کے بزرگوں میں، بزرگ قائدین میں سب سے

\*Speech not corrected by the honourable Minister.

[Mr. Khurshid Hasan Meer]

سر فہرست شار پہلے مفتی جمیل الحسینی کا اور ان کے بعد ان کے جھوٹے بھائی مفتی امین الحسینی کا نام ہوتا رہا۔ انہوں نے اپنی قوم کی درست قیادت کی اور بالخصوص دنیا اور تمام عالم اسلام میں اس مسئلے کو روشناس کرایا اور عالم اسلام کی ہمدردیاں حاصل کیں اور انہوں نے نہایت فراست کے ساتھ اس سہم میں فلسطین کی عیسائی آبادی کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور عیسائیوں کی ہمدردی بھی حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے اور ان کی یہ درست پالیسی اب بہرہ ور ہو رہی ہے۔ خود انہوں نے فلسطین سے نکل کر لبنان میں رہائش اختیار کی کہ جہاں کی نصف کے قریب آبادی عیسائی ہے اور وہاں انہیں کس عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اس کا میں عینی شاہد ہوں کیوں کہ میں بھی وہاں جناب وزیراعظم صاحب کے خصوصی نمائندے کے طور پر اسلامی سربراہ کانفرنس کے سلسلے میں گیا تھا اور وہاں مفتی صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ وہ نہایت مہربانی سے ہمارے سفارت خانے میں بھی تشریف لائے تھے۔ پھر اسلامی سربراہ کانفرنس میں بھی وہ شریک ہوئے۔ وہاں بھی ان کی ایک خاص بات تھی کہ جب ان کی باری آئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ خطاب کریں تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ لبنان کے عیسائیوں کی نمائندگی کرنے کے لئے جو لاٹ پادری آئے تھے وہ خطاب کریں تاکہ دنیا پر یہ بات ثابت ہو سکے کہ غاصب اسرائیلی حکومت اس وقت فلسطین کے علاقے پر قابض ہے اور کس حد تک وہ نسلی عصبیت کی پالیسی پر گامزن ہے اور اس نے مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ عیسائیوں کے حقوق بھی غصب کر رکھے ہیں۔ جناب والا! جیسا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا اور جیسا کہ میرے دوسرے ساتھیوں نے فرمایا، جہاں مفتی الحاج امین الحسینی کو پاکستان سے انتہائی محبت تھی، وہاں پاکستان کے عوام بھی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم سب ان کی وفات پر انتہائی رنج و الم کا اظہار کرتے ہیں۔

جناب چیئرمین: آپ سب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، میں ان میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ سو گوار خاندان کو آپ کے جذبات سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جائے گا اور یہاں یہ بھی مناسب ہے کہ سینٹ کے ان جذبات کی اطلاع باقاعدہ طور پر ان کو دی جائے اور آخر میں میں پھر نعتی صاحب کو تکلیف دے رہا ہوں کہ برائے مہربانی ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں۔

(دعا مانگی گئی)

Mr. Chairman: Now, there is a notice regarding a privilege motion by Khawaja Mohammad Safdar. Yes?

PRIVILEGE MOTION RE : FORCE USED AGAINST  
MR. J. A. RAHIM

**Khawaja Mohammad Safdar :** Sir, I beg to raise a question involving breach of privilege of a Senator as well as of the Senate. It is reported in the Press that Senator J.A. Rahim, the then senior Minister, received blows from the rifle-butts of the Federal Security Force men, who had forcibly entered Senator J.A. Rahim's residence in Islamabad in the early hours of Wednesday, the 3rd July, 1974 morning possibly at about 3.00 a.m. The Senator, bruised and bleeding, was taken to Islamabad Police Station and later on was removed to the V.I.P. Ward of the C.M.H., Rawalpindi. This atrocious attack on the person of the senator, who has been physically disabled to attend the Senate Session today by the F.S.F. is a flagrant breach of the privilege of the Senator as well as of the Senate.

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** This privilege motion is addressed to the Interior Division. The Interior Minister happens to be out of town and I have to convey a request on his behalf that this matter be deferred until his return.

**Mr. Chairman :** This stands deferred until the Interior Minister himself is present in the House.

Now we take up adjournment motions. Yes, this adjournment motion is by Senator Zamarud Hussain.

ADJOURNMENT MOTION RE : OBSCENE DANCE SHOWN  
BY KARACHI PTV

جناب زمرہ حسین : میں ایک حالیہ معاملہ پر ، جو فوری اہمیت کا حامل ہے ، بحث کرنے کی غرض سے سینٹ کی کارروائی ملتوی کرنے کی تحریک پیش کرتا ہوں ۔ معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے ٹیلیویژن کے ڈرامہ میں ٹی وی اداکارہ روحی بانو کا برہنہ رقص پیش کیا گیا ۔ ٹیلی ویژن کا یہ عمل پاکستانی عوام کی تہذیبی قدروں کو پامال کرنے کے مترادف ہے ۔ یہ خبر ”اعلان“ کراچی ۱۸ جولائی ۱۹۷۴ء کو شائع ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے ۔

جناب چیئرمین : یہ خبر کس اخبار میں شائع ہوئی ہے ؟

جناب زمرہ حسین : ”اعلان“ کراچی میں ۔

جناب چیئرمین : یہ آپ کے پاس ہے ؟

جناب زمرہ حسین : میرے پاس ہے ۔

جناب چیئرمین : اسے پڑھ کر سنائیں جو خبر ”اعلان“ میں شائع ہوئی ہے -  
(تھوڑے وقفے کے بعد)

ہاں ہاں یہ میرے پاس بھی ہے - میں نے دیکھی نہیں تھی - کون سی چیز  
اس میں قابل اعتراض ہے ؟

جناب زمرہ حسین : جناب والا ! ذرائع ابلاغ کو ویسے تو مکمل طور پر  
قومی ادارہ کہا جاتا ہے مگر یہ مکمل طور پر سرکار کے قبضے میں ہے - اس سے  
قومی ادارے کا کام نہیں لیا جا رہا ہے - اس کے ساتھ ہی ساتھ جو برائی پیدا ہو گئی  
ہے - وہ یہ ہے کہ ٹی وی میں اگر کسی خاتون کو برہنہ کسی ڈرامے میں رقص  
کے لئے پیش کیا جائے تو غالباً یہ پاکستانی عوام کے لئے بڑی تکلیف دہ بات ہے -

جناب چیئرمین : واقعات پر بعد میں بحث کر لیں گے - پہلے دیکھئیے کہ آیا  
ان کی طرف سے کوئی اعتراض ہے یا نہیں - کوئی قانونی یا ٹیکنیکل اعتراض ہوگا -

راؤ عبدالستار : ٹیکنیکل بھی ہے -

جناب چیئرمین : وہ کون سا ہے ؟ ایک تو ٹیکنیکل ہے -

راؤ عبدالستار : اور facts پر بھی اعتراض ہے - متعلقہ منسٹر صاحب حاضر  
نہیں ہیں - اس لئے اسے ملتوی کر دیں -

جناب چیئرمین : ٹیکنیکل تو بتا دیں -

**Rao Abdus Sattar :** Sir, I beg to oppose the adjournment motion  
on technical ground.

خواجہ محمد صفدر : جناب والا ! مسئلہ جو ہے اسے ملتوی کر دیا جائے -  
مولانا صاحب تشریف لائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ کہاں تک برہنہ رقص جائز ہے  
اور کہاں تک نہیں -

جناب خورشید حسن میر : برہنہ نہیں ہوگا - ان کی نظریں تیز ہو گئی ہیں -

خواجہ محمد صفدر : میں نے تو دیکھا نہیں ہے - زمرہ حسین نے دیکھا ہے -  
میں نے ٹیلی ویژن دیکھا نہیں اور نہ میرے پاس ٹیلی ویژن ہے -

(مداخلت)

جناب چیئرمین : میں نے دو تین لائیں پڑھ لی ہیں - میں پہلے سے اپنی  
رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا -

خواجہ محمد صفدر : آپ اسے ملتوی کر دیں۔ اس پر مولانا صاحب اپنا فتویٰ دیں گے۔

جناب چیئرمین : کچھ تو اس کے اوپر تھا بالکل برہنہ رقص نہیں تھا۔ اخبار میں یہ ہے کہ ابرق اور کیچڑ تھا۔

خواجہ محمد صفدر : شاید آج کل بالکل برہنہ ہو جائیں۔

جناب چیئرمین : میں اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے کہتا ہوں کہ کیڑے ٹیٹروں کے، ریشم کے، اُون کے، ٹیٹرس کے، کاغذ کے اور ابرق کے بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ابرق کے کیڑے ہیں تو کیا اسے ننگا کہا جائے گا یا نہیں۔

This is the soul and the heart of the whole question.

چلو اسے مولانا صاحب کے آنے تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ ایک اور ہے۔ زمرد حسین۔

ADJOURNMENT MOTION RE : MISDIRECTION OF  
FEDERAL GRANT FOR DEVELOPMENT

جناب زمرد حسین : جناب والا ! میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ سینٹ کی کارروائی ملتوی کر کے ایک فوری اہمیت کے مسئلے کو زیر بحث لایا جائے۔

معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کی طرف سے دی جانے والی ترقیاتی رقم میں سے اپنے غلط فیصلے کی بنا پر جون ۱۹۷۳ء میں ۳ کروڑ سے ۱۰ کروڑ تک کی رقم کی ٹھیکیداروں کو ادائیگی کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔

Mr. Chairman : Yes, any objection ?

Mr. Khurshid Hasan Meer : It will be better to deal with it when the Finance Minister is present and that is a request also that I have been instructed to convey to the House.

جناب زمرد حسین : جناب والا ! یہ بھی ملتوی ہو گئی ؟

جناب چیئرمین : یہ بھی ملتوی کی جاتی ہے۔ متعلقہ وزیر صاحب تشریف

نہیں رکھتے ہیں۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔

جناب زمرد حسین : ٹھیک ہے۔

ADJOURNMENT MOTION RE . FAILURE OF PAKISTAN  
RAILWAYS TO RUN GOODS TRAINS TO CARRY MINERAL  
WEALTH

**Mr. Chairman :** Yes, there is another adjournment motion regarding the alleged failure of Pakistan Railways. This is in your name again. Yes, Mr. Zamarud Hussain.

جناب زمرہ حسین : میں اس ایوان کی اجازت سے عوامی اہمیت کے حامل ایک فوری نوعیت کے واقعے پر بحث کے لئے سینٹ کی کارروائی کی تحریک پیش کرتا ہوں -

جناب والا ! حکومت پاکستان کھوسٹ ، ہرنائی اور سبی کے ریلوے اسٹیشنوں پر مال گاڑیاں چلانے میں ناکام ہو گئی ہے - جس کے نتیجے میں بلوچستان کی سب سے اہم معدنی دولت کوئلے کی نقل و حمل رک گئی ہے - اس سے جہاں متعلقہ کاروباری اداروں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے وہاں اس قومی دولت کا بھی ضیاع ہو رہا ہے -

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** Opposed.

جناب والا ! یہ درست ہے کہ اس لائن پر تخریب کاروں کی کارروائیوں کے باعث ریل گاڑیاں چلانے میں دقت پیش آ رہی ہے - اس لائن پر متعدد مرتبہ فائرنگ بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد فوج کی مدد سے گاڑیاں وہاں چلائی جاتی رہیں ہیں اور اب بھی چلائی جا رہی ہیں لیکن مال گاڑیاں الگ نہیں چلائی جا رہی ہیں بلکہ mixed trains چلائی جا رہی ہیں - اس سے ظاہر ہے کہ جب تک مال گاڑیاں نئے سرے سے چلنا بحال نہیں ہوتیں اس وقت تک کچھ نہ کچھ دقت پیش آئے گی - اب ہم چاہتے ہیں کہ حزب اختلاف اس سلسلے میں تعاون کرے اور تخریبی کارروائیاں جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور امن و امان قائم کرنے میں حکومت سے بھرپور تعاون کرے - اب صورت حال بہتر ہو رہی ہے اور ہمیں توقع ہے کہ مستقبل قریب میں صورت حال ٹھیک ہو جائے گی اور پھر الگ دوبارہ مال گاڑیاں چلائی جا سکیں گی -

جناب چیمبرمین : آپ کی تسلی ہو گئی ہے ؟

جناب زمرہ حسین : \* نہیں - جناب والا ! میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ صورت حال ایسی نہیں ہے جیسی متعلقہ وزیر صاحب نے بیان فرمائی ہے - واقعہ یہ ہے کہ مسافر گاڑیاں اور مال گاڑیاں مشترکہ طور پر چلائی جا رہی تھیں -

گزشتہ دنوں سے مسافر گاڑیاں چلانا بھی بند کر دی گئی ہیں۔ مال گاڑیاں تو اپنی جگہ بند ہیں، مسافر گاڑیاں بھی بند کر دی گئیں ہیں۔ اب مسافر گاڑیوں کو دن سے بحال کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب صورت حال اس طرح ہے کہ دو ہیلی کاپٹر ان چند گاڑیوں کے اوپر پرواز کرتے ہیں اور ان کی نگہبانی میں مسافر گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں۔ جناب وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ تخریب کاروں کی کارروائیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں حزب اختلاف سے تعاون کی توقع کرتے ہیں۔ جناب والا! یہ تخریب کاروں کی بات نہیں ہے۔ یہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کی بات ہے۔ موجودہ حکمرانوں نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کو جس طرح غصب کیا ہوا ہے اور جس طرح وہاں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ وہاں جمہوری راستے۔۔۔۔۔

جناب چیئرمین : قتل عام وغیرہ کی جو باتیں ہیں۔ ان کا ریل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

جناب زمرہ حسین : جناب والا! یہ جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہم سے تعاون کرے۔ اپوزیشن تب تعاون کرے گی جب وہاں جمہوریت بحال ہوگی۔ پھر جناب والا! بات یہ ہے کہ قومی دولت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ کوئلہ ایسی معدنی دولت ہے۔۔۔۔۔

جناب چیئرمین : یہ کب سے تکلیف ہے۔ یہ جو گاڑیوں کی نقل و حمل کا ضیاع ہے یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔

جناب زمرہ حسین : جہاں تک اس کو بند کرنے کا سوال ہے، یہ سلسلہ گیارہ مہینے سے چل رہا ہے۔

جناب چیئرمین : آہو یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے!

جناب زمرہ حسین : جناب میں اس عمل کی بات کر رہا ہوں جو متعلقہ وزیر صاحب نے فرمایا ہے اور جہاں تک گاڑیاں بند کرنے کا سوال ہے۔۔۔۔۔

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** Now, the cat is out of the bag. I will waive the technical objection also.

میں چاہتا نہیں تھا کہ۔۔۔۔۔

**Mr. Chairman :** You leave him to me.

[Mr. Chairman]

آپ نے فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ گیارہ مہینے سے جاری ہے تو آپ نے یہ مسئلہ  
مٹی میں کیوں نہیں پیش کیا؟

جناب زمرہ حسین: میں اس وقت جیل میں تھا۔

جناب چیئرمین: آپ جیل میں تھے تو آپ کے بھائی تو خدا کے فضل سے

باہر تھے۔ یہ پیش کر سکتے تھے۔

جناب زمرہ حسین: جناب والا! پہلے حکومت گاڑیاں چلانے کی کوششیں  
کرتی رہی ہے اور ٹوٹی پھوٹی ریلیں چلتی رہی ہیں لیکن اب تو یہ ٹوٹی پھوٹی ریلیں  
چلنا بھی بند ہو گئی ہیں۔ ہماری حکومت اب دو مہینے سے ریلیں چلانے میں ناکام  
ہو گئی ہے۔

جناب چیئرمین: مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے۔

جناب خورشید حسن میر: جناب والا! کتنے فخر سے فرما رہے ہیں، کتنی  
خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں چلنا بند ہو گئی ہیں۔ یعنی عجیب و غریب تضاد  
ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ قومی دولت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ عوام کو کوئلے کی  
ضرورت ہے، ملکی ترقی کے لئے کوئلے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف یہ condemn  
کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے حقوق غصب کر لئے ہیں۔  
جناب والا! ملک کے اندر کونسی ایسی حکومت ہے جس کو یہ حق حاصل نہیں ہے  
کہ وہ گاڑیاں چلائے۔ اور ملک کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جن کا حکومت کے  
ساتھ اگر اختلاف ہو تو وہ گاڑیاں چلانا بند کر دیں۔ وہ کون سی ذمہ دار حزب اختلاف  
ہے، جو اس کی مذمت کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے۔

جناب زمرہ حسین: جناب والا! میں کہتا ہوں کہ اس طرح وزیر صاحب اپنی  
نا اہلی ہمیں یہ کہہ کر چھپا نہیں سکتے کہ حزب اختلاف مذمت نہیں کرتی یا ان کا کردار  
اچھا نہیں ہے۔ وہ اس طرح اس بات کو دبا نہیں سکتے۔ اصل بات یوں نہیں ہے۔  
سوال یہ ہے کہ حکومت گاڑیاں چلانے میں ناکام کیوں ہوئی ہے؟ آپ اس پر بات  
کریں۔ آخر گاڑیاں نہ چلانے کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ اس پر بحث کریں تو ساری  
صورت حال سامنے آ جائے گی کہ یہ سب کچھ غیر جمہوری طرز عمل کا نتیجہ ہے۔

جناب خورشید حسن میر: \* آپ نے وہاں فوج کشی کی تھی، ایک tribe  
کا محاصرہ کر لیا تھا، ان کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، ان کی خوراک بند کر دی تھی۔

\*Speech not corrected by the honourable Minister.

**Mr. Chairman :** That will be going too far, Then, he will also have the right of reply.

آپ کہیں گے ، پھر وہ جواب دیں گے - اس طرح ہم ٹرین سے بہت دور چلے جائیں گے - آپ میری بات سنیں - عرض یہ ہے کہ جب آپ تحریک التواء لاتے ہیں ، آپ کے ساتھی میری تائید کریں گے کہ تحریک التواء اس وقت لائی جاتی ہے جب کوئی ایسا ہنگامہ ، کوئی حادثہ اور کوئی ضروری چیز یا واقعہ ہو جائے جو فوری ہو ، تو آپ کہیں کہ سینٹ کی sitting کو بالکل ملتوی کر دیا جائے - نہ legislation ہو ، نہ کوئی resolution ہو اور کوئی کام نہ ہو - یہ اجلاس فوری طور پر ملتوی کیا جائے اور اس اہم مسئلے پر بحث کی جائے ، کیوں کہ یہ بڑا ضروری ہے اور فوری پیش آیا ہے - اب آپ کے اپنے قول کے مطابق آپ نے فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ گیارہ بارہ مہینے یا دو تین ماہ سے چل رہا ہے - پہلے تھوڑا تھا ، اب زیادہ ہو گیا ہے اور اب دو تین ماہ سے ریل گاڑیاں چلنا بالکل بند ہو گئیں ہیں - یہ معاملہ فوری نہیں ہے - اگر اسے اتنا ضروری بھی سمجھ لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ مان لیں کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں درست ہیں ، تو اس سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سستی ہو کہ باقاعدہ ریل گاڑیاں نہیں چلتیں - کبھی تھوڑی چلتی ہیں اور کبھی زیادہ چلتی ہیں یا فوج کی مدد سے چلتی ہیں - یہ جو سلسلہ ہے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی motion لائیں ، کوئی resolution لائیں - لہذا اس کے لئے کوئی اور طریقہ اختیار کریں - تحریک التواء تو فوری معاملے پر بحث کرنے کے لئے ہوتی ہے - جو واقعہ urgent ہو اس کے لئے میں ہاؤس ملتوی کر سکتا ہوں کہ اس پر بحث ہو سکے - یہ سلسلہ تو ایک عرصے سے جاری ہے ، اس لئے اس پر بحث نہیں ہو سکتی - اب میں آپ کی توجہ رول نمبر ۱۷ کی طرف دلاتا ہوں -

جناب زمرہ حسین : میں یہ عرض کرتا ہوں -

جناب چیئرمین : آپ رولنگ دے رہے ہیں ، یا سن رہے ہیں ؟

رول نمبر ۱۷ کے مطابق آپ یہ پیش نہیں کر سکتے - اس لئے میں اس کو rule out کرتا ہوں -

جناب زمرہ حسین : میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں -

جناب چیئرمین : میری رولنگ کے بعد عرض کرنا چاہتے ہیں ؟

جناب زمرہ حسین : بہتر ہے جناب ! میں کچھ نہیں کہتا -

**Mr. Chairman :** Thank you very much.

I rule the motion out of order. Now, Dr. Mubashir Hassan has to lay some papers on the table of the House.

#### FINANCE DIVISION NOTIFICATION

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** I, on behalf of the Minister for Finance, Planning and Development, beg to lay before the Senate a copy of the Finance Division Notification No. S.R.O. 662(1)/74, dated the 3rd June, 1974, regarding amendments to the Public Debt (Central Government) Rules, 1946, as required by sub-section (3) of section 28 of the Public Debt Act, 1944.

**Mr. Chairman :** The papers have been laid on the table of the House. Now, we will take up legislative business.

#### THE EVACUEE TRUST PROPERTIES (MANAGEMENT AND DISPOSAL) BILL, 1974

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** I beg to introduce a Bill to provide for the management and disposal of evacuee properties attached to charitable, religious or educational trusts or institutions [The Evacuee Trust Properties (Management and Disposal) Bill, 1974].

**Mr. Chairman :** The Bill stands introduced.

#### THE DANGEROUS CARGOES (AMENDMENT) BILL, 1974

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** Sir I beg to move :

“That the Dangerous Cargoes (Amendment) Bill, 1974, as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

**Mr. Chairman :** The motion moved is :

“That the Dangerous Cargoes (Amendment) Bill, 1974, as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

**Khawaja Mohammad Safdar :** Sir, there is an amendment in this.

**Mr. Chairman :** Yes.

**Khawaja Mohammad Safdar :** Sir, I beg to move :

“That the Dangerous Cargoes (Amendment) Bill, 1974, as passed by the National Assembly, be referred to the Standing Committee concerned.”

**Mr. Chairman :** The amendment moved is :

“That the Dangerous Cargoes (Amendment) Bill, 1974, as passed by the National Assembly, be referred to the Standing Committee concerned.”

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** Sir, I have no objection.

**Mr. Chairman :** Do you all agree ?

**Members :** Yes, Sir.

**Mr. Chairman :** The Bill stands referred to the Standing Committee concerned. Now, the 6th will be redundant. This can't be moved because this has been referred to the Standing Committee and there can't be a motion for passage.

THE PAKISTAN MARITIME SHIPPING (REGULATION  
AND CONTROL) (AMENDMENT) BILL, 1974

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** Sir, I beg to move :

“That the Pakistan Maritime Shipping (Regulation and Control) (Amendment) Bill, 1974, as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

**Mr. Chairman :** The motion moved is :

“That the Pakistan Maritime Shipping (Regulation and Control) (Amendment) Bill, 1974, as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

**Khawaja Mohammad Safdar :** Sir, I beg to move :

“That the Pakistan Maritime Shipping (Regulation and Control) (Amendment) Bill, 1974, as passed by the National Assembly, be referred to the Standing Committee concerned.”

**Mr. Chairman :** The amendment moved is :

“That the Pakistan Maritime Shipping (Regulation and Control) (Amendment) Bill, 1974, as passed by the National Assembly, be referred to the Standing Committee concerned.”

**Mr. Khurshid Hasan Meer :** Sir, I would like to say that it is a very simple amendment Bill and this could be passed if the honourable Senator agreed with me. If he insists then I will have no objection.

**Mr. Chairman :** The Bill stands referred to the Standing Committee concerned. I don't think that there is any other Bill or any business for today. Tomorrow there will be National Assembly session in the morning. I think "*Asar Prayers*" will be over at about 5.30 p.m. If the honourable Senators agree, we will meet again at 5.30 tomorrow. Do you all agree?

**Members :** Yes, Sir.

**Mr. Chairman :** The House stands adjourned to meet tomorrow at 5.30 p.m.

---

The Senate adjourned to meet again at half past five of the clock, in the evening, on Friday, July 26, 1974.

---